

American Rescue Plan

بیشتر نیو یارک کے باشندگان کے لیے صحت کی کوریج کی لاگت کو کم کرتا ہے



نئی مالی مدد کو سمجھنا

- American Rescue Plan کے قانون پر 11 مارچ 2021 کو دستخط کیا گیا ہے۔ اس میں NY State of Health کے ذریعہ صحت بیمہ میں اندراج کرنے والے نیو یارک کے باشندگان کے لیے نئی اور بڑی مالی مدد شامل ہے۔
- یہ مالی مدد حالیہ اور نئے اندراج کرانے والوں کے لیے دستیاب ہے، جن میں پہلی بار زیادہ آمدنی والے افراد بھی شامل ہیں۔
- بڑے ٹیکس کریڈٹس اب کم یا متوسط آمدنی والے نیو یارک کے باشندگان کے لیے دستیاب ہیں۔ کسی فرد کے لیے، یہ سالانہ \$51,040 تک کی آمدنی ہے۔ کسی فیملی کے لیے، یہ سالانہ \$104,800 تک کی آمدنی ہے۔
- **جون سے**، نئے ٹیکس کریڈٹس نیو یارک کے ان باشندگان کے لیے دستیاب ہوں گے جن کی آمدنیاں ان رقمات سے زیادہ ہیں۔
- یہ تبدیلیاں کب رونما ہوتی ہیں اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اس بارے میں آپ کو آگاہ کرنے والے NY State of Health کے نوٹسز اور ای میلز پر نگاہ رکھیں۔

NY State of Health

نئی مالی مدد کو سمجھنے، اپنے ٹیکس کی کریڈٹ رقم کو اپ ڈیٹ کرنے، اور صحت کے منصوبے کا انتخاب کرنے اور خریداری کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔

NY State of Health سے رابطہ کریں:

اس پر آن لائن رابطہ کریں:

nystateofhealth.ny.gov



اس نمبر پر کسٹمر سروس سینٹر کو کال کریں:

1-855-355-5777



(TTY:1-800-662-1220)

اندراج کے معاون سے مفت مدد حاصل کریں۔

اس پر تلاش کریں:

[info.nystateofhealth.ny.gov/](https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor)

[findassistor](https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor)



American Rescue Plan سے متعلق مزید

جاننے کے لئے براہ کرم ملاحظہ کریں:

[https://info.nystateofhealth.ny.gov/](https://info.nystateofhealth.ny.gov/AmericanRescuePlan)

[AmericanRescuePlan](https://info.nystateofhealth.ny.gov/AmericanRescuePlan)

NY State of Health قابل اطلاق وفاقی دیوانی حقوق کے قوانین اور ریاستی قوانین کی تعمیل کرتا ہے اور نسل، رنگ، قومی اصلیت، مسلک/مذہب، جنس، عمر، ازدواجی/کنبہ جاتی حیثیت، معذوری، حمل سے متعلق حالت، گرفتاری کے ریکارڈ، مجرمانہ سزا بائی (سزا یا بیوں)، صنفی شناخت، جنسی رجحان، ثانوی جینیاتی خصوصیات، فوجی حیثیت، خانگی تشدد کے متاثر کی حیثیت اور/یا انتقام کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کرتا ہے۔

American Rescue Plan نیویارک کے بیشتر باشندگان کے لیے صحت کی کوریج کی لاگت کو کم کرتا ہے

آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے:

اگر آپ کا NY State of Health کے ذریعے کسی پلان میں اندراج ہے اور آپ مالی مدد حاصل کرتے ہیں:

- اب آپ مزید مالی مدد کے اہل ہیں۔
- NY State of Health آپ کی نئی، زیادہ بڑی ٹیکس کریڈٹ کی رقم کے ساتھ اپریل کے شروع میں خطوط بھیج رہا ہے۔ اپنے ٹیکس کریڈٹ کی رقم کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے خط میں دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔
- اگر آپ جون تک اپنے ٹیکس کریڈٹ کی رقم کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہیں تو، NY State of Health آپ کے لیے خود بخود اس میں اضافہ کر دے گا۔ آپ کو اپنے NY State of Health کے اکاؤنٹ میں لاگ ان کر کے، اندراج کے معاون سے رابطہ کر کے یا 1-855-355-5777 پر کال کر کے تبدیلیاں کرنے کا موقع ملے گا۔

اگر آپ نے NY State of Health کی درخواست شروع کر دی لیکن صحت کے کسی منصوبہ میں اندراج نہیں کرایا:

- اگر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ مالی مدد کے اہل ہیں تو، اب آپ ممکنہ طور پر مزید کے اہل ہو جاتے ہیں۔ ابھی اپنے NY State of Health اکاؤنٹ میں دوبارہ لاگ ان کریں اور دیکھیں کہ آیا آپ زیادہ بڑے ٹیکس کریڈٹس کے اہل ہیں یا نہیں، پھر کوئی منصوبہ منتخب کریں اور خریداری کریں۔
- اگر آپ کو پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ مالی مدد کے اہل نہیں ہیں تو، اب آپ اس کے اہل ہو سکتے ہیں۔ جون میں اپنے NY State of Health اکاؤنٹ میں دوبارہ لاگ ان کریں اور دیکھیں کہ آیا آپ زیادہ بڑے ٹیکس کریڈٹس کے اہل ہیں یا نہیں، پھر کوئی منصوبہ منتخب کریں اور خریداری کریں۔

اگر آپ پہلے ہی NY State of Health پلان میں اندراج کرا چکے ہیں اور آپ کو مالی مدد نہیں مل رہی ہے تو:

- اب آپ پریمیم ٹیکس کریڈٹ کے اہل ہو سکتے ہیں۔
- یہ نئے ٹیکس کریڈٹس جون سے شروع ہوں گے۔ NY State of Health آپ کو ایک خط بھیجے گا جس میں آپ کی نئے ٹیکس کریڈٹ کی رقم درج ہوگی۔ اپنے ٹیکس کریڈٹ کے لیے درخواست دینے کے طریقے کے بارے میں ہدایات <https://info.nystateofhealth.ny.gov/AmericanRescuePlan> پر دستیاب ہوں گی

اگر آپ کا NY State of Health کے ذریعے کسی پلان میں اندراج نہیں ہے اور آپ نے کبھی بھی درخواست نہیں دی ہے:

- یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آپ کس کے اہل ہیں، ابھی nystateofhealth.ny.gov پر درخواست دیں۔ نیویارک کے بیشتر باشندگان کم لاگت یا مفت کوریج کے لیے اہل ہیں۔ اگر آپ کی آمدنی کم یا متوسط ہے (ایک فرد کے لیے، سالانہ \$51,040، یا چار افراد کے لیے سالانہ \$104,800 تک) تو بہتر مالی مدد اب دستیاب ہے۔
- اگر آپ کی آمدنی زیادہ ہے (ایک فرد کے لیے، سالانہ \$51,040، یا چار افراد کے لیے سالانہ \$104,800 تک) تو یہ مراعات جون سے NY State of Health کے ذریعہ دستیاب ہوں گی۔